

کام پر صحت اور حفاظت - WHS قوانین کے تحت فرائض

کام پر صحت اور حفاظت کے ماڈل قوانین لازمی قرار دیتے ہیں کہ آجر کام کے مقام پر لوگوں کی صحت اور حفاظت کا خیال رکھیں۔ اس میں یہ شامل ہے:

- کام کا ایسا ماحول فراہم کرنا اور برقرار رکھنا جس میں صحت اور حفاظت کے لیے خطرہ نہ ہو
- کارکنوں کی فلاح کے لیے مناسب اور قابل رسائی سہولیات فراہم کرنا تاکہ کارکن اپنا کام انجام دے سکیں، اور
- کارکنوں کی صحت اور کام کے مقام کے حالات پر نظر رکھنا تاکہ بیماری یا ضرر کی روک تھام کی جائے۔

کارکنوں کی طرف فرض

آپ کا فرض ہے کہ اپنے کارکنوں کی صحت اور حفاظت یقینی بنائیں۔ COVID-19 سے واسطے کا خطرہ ختم کرنا آپ پر لازم ہے یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ کو اس خطرے کو ہر ممکن حد تک کم کرنا ہوگا۔

کارکنوں کو COVID-19 سے واسطے پڑنے کے خطرے سے محفوظ رکھیں، مثال کے طور پر ان طریقوں سے:

- گھر سے کام کے انتظامات عمل میں لانا
- کارکنوں کو پابند کرنا کہ وہ لوگوں سے فاصلہ رکھیں اور اچھے حفظان صحت پر عمل کریں
- کارکنوں کو پابند کرنا کہ بیماری کی صورت میں وہ گھر سے کام کریں، اور
- کام کے مقام پر باقاعدگی سے اور پوری طرح صفائی۔

کام کے مقام پر دوسرے لوگوں کی طرف فرض

آپ پر یہ یقینی بنانا لازم ہے کہ آپ کا کاروبار دوسرے لوگوں جیسے گاہکوں، کلائنٹس اور ملاقاتیوں کی صحت اور حفاظت کو خطرے میں نہ ڈالے۔

دوسرے لوگوں کو COVID-19 سے واسطے پڑنے کے خطرے سے محفوظ رکھیں، مثال کے طور پر ان طریقوں سے:

- لوگوں کا آپس میں فاصلہ رکھنا جس کے لیے بغیر چھوئے سامان کی ڈیلیوری اور ادائیگی جیسے طریقے استعمال ہوں
- اچھے حفظان صحت پر عمل کرنا، اور
- کام کے مقام سے دور رہنا، سوائے اس کے کہ آنا لازمی ہو

کام کے مقام اور سہولیات کو درست حالت میں رکھنے کا فرض

اپنے کام کے مقام کو درست حالت میں رکھنا تاکہ یہ یقینی ہو کہ کام کا ماحول کارکنوں اور دوسرے لوگوں کے لیے COVID-19 میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا نہیں کرتا۔

کام کا محفوظ ماحول برقرار رکھیں، مثال کے طور پر ان طریقوں سے:

- کام کے مقام پر باقاعدگی سے اور پوری طرح صفائی۔
- کام کے مقام کا ڈیزائن اس طرح بدلنا کہ لوگوں کے لیے آپس میں فاصلہ رکھنا ممکن ہو، اور
- کام کے مقام پر لوگوں کی تعداد کو محدود کرنا۔

آپ کام کے مقام پر مناسب سہولیات فراہم کرنے کے بھی پابند ہیں:

- صابن، پانی اور کاغذی تولیے کے ساتھ ہاتھ دھونے کی سہولیات فراہم کرنا
- جہاں کارکنوں کے لیے ہاتھ دھونا ممکن نہ ہو، وہاں ہینڈ سینیٹائزر فراہم کرنا، اور
- عملے کے لیے ایسے کمرے جو صاف ہوں اور جہاں لوگوں کے لیے آپس میں فاصلہ رکھنا ممکن ہو۔

کارکنوں کو باقاعدگی سے وقفے دیں تاکہ وہ ان سہولیات کو استعمال کر سکیں، بالخصوص ہاتھ دھونے کے لیے۔

معلومات، تربیت، ہدایات اور رہنمائی فراہم کرنے کا فرض

آپ پر لازم ہے کہ اپنے کارکنوں کو ایسی معلومات اور تربیت فراہم کریں جو انہیں کام پر COVID-19 سے واسطے کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہو۔

اس میں یہ شامل ہو سکتا ہے:

- ہاتھ دھونے کے درست طریقے کے بارے میں رہنمائی
- ذاتی حفاظت کا سازوسامان (PPE) پہننے اور استعمال کرنے کے طریقے کی تربیت
- یہ تربیت کے صفائی کیسے اور کب کی جائے
- گھر میں کام کا محفوظ مقام بنانے کے لیے ہدایات، اور
- یہ ہدایات کہ بیماری کی صورت میں گھر میں رہیں اور کام پر نہ آئیں۔

مشورہ کرنے کا فرض

آپ پر لازم ہے کہ COVID-19 سے متعلق صحت اور حفاظت کے معاملات پر اپنے کارکنوں سے مشورہ کریں اور کارکنوں کو اپنے خیالات اور تشویش ظاہر کرنے کا موقع دیں۔ ان کے خیالات کو مدنظر رکھیں اور صلاح مشورے کے نتیجے سے کارکنوں کو آگاہ کریں۔

ان مواقع پر اپنے کارکنوں سے مشورہ کریں:

- جب آپ خطرات کو جانچنے کا عمل انجام دیں
- جب آپ خطرات کو سنبھالنے کے لیے کنٹرول کے اقدامات کے فیصلے کریں جیسے گھر سے کام کے انتظامات متعارف کروانا یا کام کے مقام پر ایسی پابندیاں لگانا کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا یقینی ہو
- جب آپ کام کے مقام پر سہولیات کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہوں



- جب آپ دوسری ایسی تبدیلیاں تجویز کر رہے ہوں جو کارکنوں کی صحت اور حفاظت پر اثر انداز ہوں
- اگر صلاح مشورے کے لیے کسی طریق کار پر اتفاق ہوا ہو تو آپ اس طریق کار پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اگر صحت اور حفاظت کے نمائندے ہوں تو آپ انہیں بھی مشورے میں شامل کرنے کے پابند ہیں۔

مزید معلومات

COVID-19 اور کام پر صحت اور حفاظت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے [Safe Work Australia کی ویب سائٹ](https://www.swa.gov.au/coronavirus) دیکھیں۔